



و لوندی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی: وَيَوْمَ الْوَسْطِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا --- أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي (کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے) اسی دن مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لوندی تھی انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور انہی کے ساتھ رہتی تھی اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی (جو دلہن تھی) نے ہانڈے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا چیل اسے (سرخ رنگ کی وجہ سے) گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی بعد میں قبیلے والوں نے اسے بت تلاش کیا، لیکن کہیں نہ ملا ان لوگوں نے اس کی خدمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا وہ ان کے سامنے ہی گرا میں نے (اسے دیکھ کر) کہا یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر خدمت لگاتے تھے تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی یہی تو ہے وہ کمر بند! اس (لوندی) نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لے آئی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک خباء (بڑا خیمہ) لگا دیا گیا (یا یہ کہا کہ) جَفَشَ (چھوٹا سا خیمہ) لگا دیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ لوندی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی: وَيَوْمَ الْوَسْطِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا --- أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي (کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے) اسی دن مجھے کفر کے ملک سے نجات دی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور کہتی ہو آپ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھ سے قصہ سنایا

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں ایک لڑکی کے قبول اسلام کی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے قبیلے کی طرف سے اس پر ایک چھوٹے سے ہار کی چوری کی خدمت لگائی گئی جس کو ایک چیل سرخ رنگ کی وجہ سے لے اڑی تھی قبیلے والے اس کے کپڑے اتار کر اس کی تلاشی لے لے اللہ کی قدرت کے عین تلاشی کے وقت اس چیل نے وہ ہار ان کے درمیان پھینک دیا تو وہ اس کی بے گناہی کو جان گئے وہ لڑکی رسول اللہ کے پاس آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے مسجد میں رکھنا دیا دی گئی وہ اس حادثے کو ہمیشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی اور اس حادثے کی مناسبت سے یہ شعر پڑھا کرتی: وَيَوْمَ الْوَسْطِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا --- أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي (کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے) اسی دن مجھے کفر کے ملک سے نجات دی یعنی کمر بند ملنے والا دن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں میں سے ہے اس نے مجھ سے اس واقعے کے بعد کفر کے ملک سے بچالیا



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

